



جب غزوہ احد کا وقت قریب آگیا تو مجھ میرے والد نے رات کو بلایا اور کہا کہ مجھ ایسا لگتا ہے کہ نبی کے اصحاب میں سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب غزوہ احد کا وقت قریب آگیا تو مجھ میرے والد نے رات کو بلایا اور کہا کہ مجھ ایسا لگتا ہے کہ نبی کے اصحاب میں سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا اور میرے نزدیک رسول اللہ کے بعد سب سے عزیز تم ہو اگر مجھ پر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنا، اپنے ہاتھوں سے اچھا سلوک کرنا جب اگلی صبح ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہوئی تھی میں نے ان کو کسی اور کے ساتھ دفن کر دیا لیکن پھر مجھ اچھا نہ لگا کہ میں انہیں کسی اور کے ساتھ قبر میں چھوڑ رکھوں لہذا میں نے چھ مہینے بعد ان کو اس قبر سے نکالا تو وہ ایک کان کے علاوہ ویسے ہی تھے جیسے ان کو پہلے دن قبر میں رکھا گیا تھا اور پھر ان کو علیحدہ قبر میں دفن کر دیا

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

ایک رات عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور ان سے کہا: مجھ لگتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے میں پہلا شخص ہوں گا، جسے قتل کیا جائے گا یہ غزوہ احد سے ذرا پہلے کی بات ہے پھر ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میں جن لوگوں کو چھوڑ کر جاؤں گا، ان میں رسول اللہ کے بعد سب سے عزیز شخص تم ہو ان کو وصیت کی کہ ان کی طرف سے قرض ادا کر دے اور ہاتھوں کے ساتھ حسن سلوک کرے پھر جنگ ہوئی، انہوں نے قتال کیا اور شہید ہو گئے غزوہ احد کے دن ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا آسان نہ تھا، اس لیے مسلمان ایک ایک قبر میں دو دو اور تین تین افراد کو دفنانے لگے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایک آدمی کو دفن کیا گیا، لیکن جابر رضی اللہ عنہ کو دلی طور پر یہ اچھا نہ لگا اور اپنے والد اور ان کے ساتھ مدفون شخص کو الگ الگ کر دیا؛ انہوں نے تدفین کے چھ مہینے بعد قبر کھودی، تو ان کو ویسے ہی پایا، جیسے انہیں دفن کیا گیا تھا ان کے جسم پر کان کے کچھ حصے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور پھر انہیں الگ قبر میں دفن دیا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3462>

